



دو چیزیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں ان سے بچو صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: جو لوگوں کے راستوں یا ان کی سایہ دار جگہوں پر قضاہ حاجت کرے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: دو چیزیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں ان سے بچو صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: جو لوگوں کے راستوں یا ان کی سایہ دار جگہوں پر قضاہ حاجت کرے

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

دو ایسی باتوں سے پرہیز کرو جن کی وجہ سے لوگ لعنت کرتے ہیں بایں طور کہ جو ان کو کرتا ہے عموماً بُرا بہلا کہلاتا ہے اور اس پر لعنت کی جاتی ہے یعنی عموماً لوگ انہیں کرنہ والے کو لعنت ملامت کرتے ہیں چنانچہ اس وجہ سے لعنت کو ان دو باتوں کی طرف منسوب کیا گیا ان سے مراد لوگوں کی گزر گاہوں اور ان کی سایہ دار جگہوں میں قضاہ حاجت کرنا ہے ایسا ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ”اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیوں کہ پھر وہ براہِ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے“ (الانعام: 108) یعنی تم اس بات کا سبب بنو گے کہ وہ اللہ کو برا بہلا کہیں کیوں کہ تم نے ان کے معبودوں کو برا بہلا کہہا ہے اسی طرح آپ نے منع فرمایا کہ کوئی اپنے باپ یا ماں کو گالی دے صحابہ کرام نے پوچھا کہ: کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟! آپ نے فرمایا: ہاں آدمی کسی اور شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے جواباً وہ بھی اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے چنانچہ یہ ایسے ہی ہو گیا کہ گویا اس نے اپنے ہی باپ کو گالی دی کیوں کہ وہی اس کا سبب بنا ہے آپ نے فرمایا: ایسی جگہوں پر پیشاب پاخانہ کرتا ہے جہاں لوگوں کا گزر ہوتا ہے اور جہاں ان کا آنا جانا رہتا ہے اس عمل کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، چاہے ایسا حالتِ اقامت میں ہو یا دورانِ سفر، کیوں کہ ایسا کرنہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ”اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ (بڑے ہی) بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں“ (الاحزاب: 58) تاہم اگر راستہ غیر آباد ہو تو اس پر قضاہ حاجت میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ اب حرمت کی علت باقی نہیں رہی ہے آپ نے فرمایا: کسی ایسی سایہ دار جگہ پر قضاہ حاجت کرے جہاں لوگ دوپہر کو قیام کرتے ہوں اور پڑاؤ ڈالتے ہوں تاہم ویران علاقوں میں موجود جگہیں جہاں لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، ان میں قضاہ حاجت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیوں کہ یہاں بھی علت نہیں پائی جاتی اس لیے کہ آپ نے خود کھجوروں کے جھنڈ میں قضاہ حاجت کے لیے بیٹھ کر جو سایہ دار تھا



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

